

بینک چارجز کا شیڈول جولائی تا دسمبر 2025ء

111-113-442 | www.albaraka.com.pk



Follow us on



AlBarakaPakistan



albaraka_bank_pakistan



al-baraka-bank-pakistan

اس جدول میں درج سروس چارجز بینک کی جانب سے مختلف ٹرانزیکشنز پر پیش کی جانے والی کئی اقسام کے جائز معاوضے یا تلافی کی خدمات ہیں۔

ہمارے شریعہ بورڈ کے مطابق بنیادی طور پر کسی بھی مالی وعدے یا ضمانت کے عوض پر اجرت/بخشش لینے کی نوعیت معاوضے یا تلافی (عقو و غیر مؤدہ) کے طور پر پیش کی جانے والی رقم کے زمرے میں نہیں ہے۔ تاہم بینک کی جانب سے کسی متعلقہ اضافی خدمت کی فراہمی پر اجرت وصول کرنے کی اجازت ہے۔



صفحہ نمبر	تفصیلات
01	بین الاقوامی بینکاری
01	1 تجارتی فنانس
01	i درآمدات
02	ii برآمدات
02	2 ترسیلات زرمبادلہ
02	i خارجی
03	ii داخلی iii کلیکشنز/کلیئرنگ iv فارن بلز v سوئفٹ
03	ب ملکی بینکاری
03	1 ترسیلات زرمقامی کرنسی
04	i ڈیمانڈ ڈرافٹ ii پے آرڈر iii کال ڈپازٹ
04	2 کلیکشن اور کلیئرنگ
05	3 بلز
05	4 سیف ڈپازٹ لاکر
05	5 چیک بک
06	6 متبادل ڈیلیوری چینل
06	i ڈیپٹ کارڈ اجراء تجدیدی اور تجدید
06	ii اسے ڈی سی ٹرانزیکشنز چارجز
06	iii ایس ایم ایس الرٹ
07	7 بیرون پاکستان ڈیپٹ کارڈ کا استعمال
07	8 کیو ٹیکشن ٹیرف
07	i کورئیر ii رجسٹرڈ پوسٹ
07	9 رپورٹس اور سرٹیفیکیشن
07	10 ٹیلی فون اور فیکس
07	11 متفرقات
08	12 اوور دی کاؤنٹر چارجز (OTC پورٹل)
08	ج مفت سروسز
09	1 شفقات اکاؤنٹ
09	2 البرکہ برنس ٹیکس
10	3 البرکہ کنزیومر برنس پائٹر اکاؤنٹ
11	4 البرکہ بنات اکاؤنٹ
11	5 تعمیر بیونگ پلان
11	6 جج البرکہ
11	7 البرکہ فری لانس کرٹ / سیونگ اکاؤنٹ
11	8 فون بینکنگ
12	9 اسٹاف سٹوری اکاؤنٹ کے لیے
12	د فنانسنگ سروسز
12	1 فنانسنگ
13	2 کارپوریٹ + انویسٹمنٹ بینکنگ
14	3 SME / کمرشل اور کارپوریٹ
14	4 کنزیومر آؤٹ فنانس
15	5 کنزیومر باؤنڈ فنانس
16	6 پریڈا پوسٹ فنانس
17	7 کنزیومر سول فنانس
18	8 ہکا فیل
18	9 رہنما ٹریول سروسز
18	ضمانتیں
19	ضمیمہ جات

۱ بین الاقوامی بینکاری -1 تجارتی فنانس

ii

برآمدات	ا	ایلی/ایڈوانزنگ چارجز	-/1,500 روپے (مقررہ)
	ب	ایلی/ایمپنڈمنٹ چارجز	-/1,200 روپے (مقررہ)
	ج	کنفریشن، ایڈوانزنگ اور متفرق چارجز	سلیب (ضمیمہ اول) کے مطابق
	د	ایکسپورٹ/ایلی/ای کی منتقلی	1,500 روپے (مقررہ)
	ه	ایکسپورٹ ہزار/ای لینڈ ہزار	
	و	دستاویزی بلز جن پر بینک کی کسی قسم کی کیٹچنگ آمدنی نہیں	کورسپونڈنٹ بینک چارجز بمطابق اصل
	ز	فریٹ سسڈی کیسز کی پنڈلنگ	0.25% لم از کم -/1000 روپے
	ح	ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج (EDs) کیسز کی	-/80 روپے فی کیس، جس پر ای پی پی کی جانب سے کی گئی وثائق کو قیام نظر ثانی کا اطلاق ہوگا
	ط	پنڈلنگ	
	ی	جنگلی ادائیگی کے عوض EPRC کے اجراء کے لیے سروس چارجز	-/500 روپے (مقررہ)
	ک	ایکسپورٹ ایلی/ای پی ایڈوانس (بشمول ایلی/ای ایمپنڈمنٹ)	-/250 روپے کو ریئر چارجز، اگر کوئی ہے
	ل	دوسرے بینک سے وصولی کے لیے بھیجے گئے ایکسپورٹ ہزار کی منتقلی	-/1,000 روپے مع کیٹچمنٹ چارجز
	م	برآمدی دستاویزات کے عوض وصول کی گئی پیٹنگی رقم کی	-/300 روپے (مقررہ) فی کیس مع ایس بی پی میں جمع کرنے کے لیے ڈاک کارج
	ن	غیر ادا شدہ واپس کی گئیں دستاویزات	-/500 روپے (مقررہ) فی دستاویز
	س	رسٹر کیڈ ایلی/ای کے تحت دوسرے بینک سے گنت و شنید کے لیے بھیجی گئیں دستاویزات	0.30% کم از کم -/500 روپے
	ع	ریسرج اور ڈیولپمنٹ کیسز ڈیوٹی ڈرائیوٹ کی پنڈلنگ	دعویٰ کی گئی رقم کا 0.25% یا کم از کم -/1000 روپے
	ف	ان لینڈ ایلی/ای کے تحت طریقہ کار کے امور کی انجام دہی	-/500 روپے (مقررہ) فی امور کار
	ص	وصولی کی بنیاد پر بھیجی گئی دستاویز/جنگلی ادائیگی کے عوض سروس چارجز	-/15 روپے فی -/100 روپے (کم از کم -/1,500 روپے)
	ق	کور ریئر چارجز	اصل
	ر	ای آر ایف/ای این ای او ای برائے استحقاق (ان ٹائلنڈ)	-/500 روپے (مقررہ)
	ش	ایکسپورٹ ایڈوانس منعمت	کورسپونڈنٹ بینک چارجز بمطابق اصل
	ت	دیگرنیکس کو ای ای ڈی ٹرس کا اجرا	فی کیس 1000 روپے
	ث	دیگرنیکس کو ای ای ڈی ٹرس کی منتقلی	فی کیس 500 روپے
	خ	کرڈٹ رپورٹ چارجز	اصل الگت مع 500 روپے
	ذ	ایکسپورٹ پرفارمنس و پرفیکشن	فی آنسٹم 500 روپے
		IERS 1 پر کے تحت سٹیٹیشن کیسز کی پنڈلنگ	فی کیس 500 روپے
		IERS درخواست کی پنڈلنگ	IERS درخواست کے لیے 500 روپے

امم:

صارف سے متعلق چارجز صارف اور بینک کے مابین انتظام کیے جاسکتے ہیں۔

(iii)

مقرر	ا	ٹریڈ ٹرنس سٹیکٹس کا اجراء	-/1,000 روپے
	ب	فائنل انسٹرومنٹ (F.I.) کا دیگر بینکوں کو PSW میں ٹرانسفر	(مقررہ) -/1,000 روپے فی ٹرانسفر

-2 ترسیلات و زرمبادلہ

-i

خارجی	ا	ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجرا	15 امریکی ڈالر
	ب	ڈیمانڈ ڈرافٹ کی تیغ	10 امریکی ڈالر
	ج	ڈیمانڈ ڈرافٹ کی نقل کا اجرا	15 امریکی ڈالر
	د	ڈیمانڈ ڈرافٹ کی اسٹاپ منعمت	15 امریکی ڈالر مع سونفٹ چارجز

درآمدات	ا	ایلی/ای کا آواز	بمطابق ضمیمہ اول
	ب	ایلی/ای اور ترسیم معاہدہ	1,000 روپے (مقررہ)
	ج	اگر ترسیم میں ایلی/ای کی رقم اور/یا ایجاد میں کوئی اضافہ شامل ہو	1,000 روپے (مقررہ) یا اگر رقم میں اضافہ شپٹ کے دولیے یا ایجاد میں توسیع ہے تو ضمیمہ اول اور دوم کے تحت ایشیا پاس کے نرخ کے مطابق سروس چارجز
	د	تمام فارن ایکسیج ٹرانزیکشن پر سروس چارجز	0.15% (کم از کم -/1,500 روپے)
	ه	دستاویزی کیٹیشن (جمع کرنا)	1,000 روپے (مقررہ)
	و	ایلی/ای کے تحت واپس کی گئیں غیر ادا شدہ ایشیا معاہدے کی رجسٹریشن	1,000 روپے (مقررہ) مع کوریئر چارجز اور معاہدوں بینک کیلئے چارجز اصل پر وصول کیے جائیں گے
	ز	معاہدے کی رجسٹریشن	ضمیمہ دوم کے مطابق
	ح	ایلی/ای دی امبرمنٹ	اصل
	ط	امپورٹ ایلی/ای پر پونج	اصل
	ی	ایلی/ای کو سپونڈنٹس چارجز	اصل
	ک	کرڈٹ انفارمیشن رپورٹ	اصل
	ل	ایلی/ای معاہدہ ادائیگی کے تحت قبولیت	0.15% یا نہ پاس کے کسی حصے کیلئے کم سے کم 1,000 روپے
	م	کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے قبولیت	0.15% (کم سے کم -/500 روپے)
	ن	درآمدی ایلی/ای کے تحت پہلے سے کسی انتظام کے بغیر ایشیا کی کیئرنگ	درآمدی ایشیا کی ایڈوائف قدر کا 0.25% (کم سے کم -/1,000 روپے)
	س	گنیش/کنٹرول کے تحت واپس کیے گئے غیر ادا شدہ امپورٹ بلز	1,000 روپے (مقررہ)
	ع	ایلی/ای آغاڈ کنٹرول ایڈوانس منعمت کی رجسٹریشن کے بغیر درآمد پر سٹیکس (ترسیلات زر)	0.15% کم از کم -/1,500 روپے مع سونفٹ/ایف ڈی ڈی چارجز
	ف	تینج ایلی/ای کے چارجز	1,000 روپے (مقررہ) مع سونفٹ چارجز کی اصل الگت
	ص	ڈسکریٹری فیس مع 35 امریکی ڈالر سونفٹ چارجز	فیس 70 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی، ان لینڈ ایلی/ای کی صورت میں 2000 روپے
	ق	درآمد کنندگان کی درخواست پر زرمبادلہ کی بنگ کیلئے کسی دوسرے بینک سے معاہدے کی ایلی/ای رجسٹریشن کے آواز کیلئے سرٹیفیکٹ کا اجرا	(ا) 10 لاکھ روپے بینک کی ایلی/ای رقم پر فی درخواست -/800 روپے (مقررہ) (ب) 10 لاکھ روپے سے زائد کی ایلی/ای رقم پر فی درخواست -/1,000 روپے (مقررہ)
	ر	کور ریئر چارجز	اصل

امم:

- شرح مبادلہ میں آثار چڑھاؤ اور/یا (صارف کی جانب سے) سہولت استعمال کرنے کی وجہ سے ایلی/ای لائیکٹیٹی (ادائیگی واجبات) میں اضافے کی صورت میں، بینک مذکورہ بالا رقم نہ ہونے والے ایلی/ای لائیکٹیٹی میں اضافے کے مطابق ایلی/ای سروس چارجز کی وصولی کے حق محفوظ رکھتا ہے۔
- درآمدی مراد کی صورت میں ایلی/ای سروس چارجز کی وصولی فراہمی کر کے حصے کے طور پر کی جائے گی۔
- مجاز اتھارٹی اپنی صوابدید پر صارف کیلئے رعایتی شرح پیش کر سکتی ہے۔
- اگر بلز کی جنگلی ایلی/ای ایجاد کے اندر سے قبولیت کیلئے کوئی چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر ایلی/ای کی ایجاد کر جانے کے بعد بھی واجب الادا ہیں تو مذکورہ بالا سروس چارجز ایلی/ای کی آخری تاریخ بل کی ادائیگی کی تاریخ تک ماباندہ چارجز کیے جائیں گے۔

15 امریکی ڈالر (دوسری کرنسیز کے مساوی) + سوئٹ +
(ملکی بینکاری میں متفرقات کے سیریل 'ا' کے مطابق
کیش پیڈلنک چارجز) + کوریڈنٹ بینک چارجز
مطابق اصل، اگر کوئی ہو

-/600 روپے

سوئٹ میں ترمیم

اہم:

تمام چارجز میں سوئٹ چارجز شامل ہیں۔

ii	داخلی
i	اگر تم ہمارے بینک کے ساتھ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی گئی
ب	اگر تم کسی اور بینک کے ساتھ اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی گئی
ج	ٹرانزیکشنز روپیہ اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینک اکاؤنٹات کی ادائیگی سے
د	کلین بل
ہ	کلکیشن کے لیے بھیجی گئی ایف او بی سی سے متعلق

کلکیشن/کلیرنگ

iii	کلکیشن/کلیرنگ کے لیے فارن بلز/چیکس
i	0.50% (کم از کم روپے -/100، زیادہ سے زیادہ -/1,500 روپے) + (کوریڈر اور اصل دیگر متعلقہ چارجز)
ب	ایف سی وائی چیکس/ڈرافٹس مقامی وصولی
ج	(کلکیشن) کے لیے بھیجے گئے
د	کوریڈنٹ بینک کے چارجز اگر ہیں تو
د	کلکیشن کے لیے بھیجی گئی ایف او بی سی سے متعلق

فارن بلز

i	کوریڈنٹ بینک کے چارجز اگر ہیں تو
ب	FOBC ریٹرز
	5(ا) امریکی ڈالر فی آنکم (قیمت 10,000 امریکی ڈالر سے کم) 10(ب) امریکی ڈالر فی آنکم (قیمت 10,000 امریکی ڈالر اور زائد)

سوئٹ

i	فل سوئٹ کے ذریعے فارن ای/سی
ب	شارٹ سوئٹ کے ذریعے ای/سی
ج	سوئٹ کے ذریعے ای/سی امینڈمنٹ
د	سوئٹ - فارن

PRISM سسٹم کے ذریعے تفریق پارٹی ٹرانسفر کی سہولت

ایم ٹی 102 اور ایم ٹی 103 کے لیے RTGS چارجز صرف

نوٹ: یہ چارجز اسٹیٹ بینک کی ہدایات کے مطابق ہیں جیسا کہ وقتاً فوقتاً فراہم کیا جاتا ہے۔

ملکی بینکاری

1- ترسیلات و رقماتی

i	ڈیجیٹل ڈرافٹ
i	نمائندہ کے ذریعے
i	کھاتے دار کے لیے
	-/100,000 روپے بینک کے لیے
	-/100,000 روپے سے زائد کے لیے
	0.1% (کم از کم -/500، زیادہ سے زیادہ -/5000 روپے) مع کوریڈر

ii

غیر کھاتے دار کے لیے
-/100,000 روپے بینک کے لیے
-/100,000 روپے سے زائد کے لیے

ب

i

ii

ج

د

ہ

ب

ج

د

ہ

ب

i

ii

ب

i

ii

ج

i

ii

د

i

ii

ہ

i

ii

اہم:

تعمیمیں اداروں، HEC/Board وغیرہ کو فیس/دیگر واجبات کی ادائیگی پر پے آرڈر/ڈی ڈی/یاد دیگر متعلقہ ذرائع کاربانا بنانے پر جو
0.5% فیس/واجبات کی ادائیگی سے زیادہ نہ ہو یا۔ 25 روپے فی انسٹرومنٹ، ان میں جو بھی کم ہو، کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

کال ڈپازٹ

iii

i

ب

ج

د

2- کلکیشن اور کلیرنگ

i

ii

iii

iv

v

vi

اجرا (صرف کھاتے دار کے لیے)	-/250 روپے
تنسی چارجز	-/250 روپے
ڈیجیٹل ڈرافٹ	-/250 روپے
اسٹاپ بینکٹ	-/250 روپے

کلکیشن اور کلیرنگ

مقامی بلز کی کلکیشن کے لیے	-/200 روپے (مقررہ) بشمول کوریڈر چارجز
NIFT (بشمول واپس کے گئے چیکس کے چارجز کے ساتھ، اگر ہے) کے ذریعے خصوصی کلیرنگ چارجز	-/400 روپے (مقررہ)
انٹرنیٹ آؤٹ روڈ کلیرنگ کو جھٹ چارجز	-/200 روپے فی انسٹرومنٹ
چیک ریٹرن چارجز (انٹرنیٹ ان روڈ کلیرنگ)	-/600 روپے فی انسٹرومنٹ
لوکل بایوس ڈی کلیرنگ چیک	-/600 روپے فی انسٹرومنٹ

vii	چیک ریٹرن چارجز (ان ورڈ کٹنگ)	-/600 روپے فی انسٹرومنٹ *
vii	لوکل USD چیک ریٹرن چارجز	-/600 روپے فی انسٹرومنٹ
	* ناکافی فنڈز، دستخط میں فرق، بلا اجازت رد و بدل، الفاظ اور اعداد مختلف ہونے کی صورت میں	

3- بلز

i	ان لینڈ لیٹر آف ریڈیٹ	ضمیمہ-1 کے مطابق، چارجز کے مختلف سلیجز دیے گئے ہیں
ii	ترمیمات	-/1,500 روپے فی ترمیم (مقررہ) مع درج بالا آئٹم (i) کے تحت مخصوص شرح کے ساتھ کمیشن، اگر ترمیم میں کوئی اضافہ یا وقت میں توسیع شامل ہے
iii	کسٹمریشن کمیشن	0.125% فلیٹ، ہریل کے لیے کم از کم -/1,000 روپے
iv	تعریف بلا (LC کی معاد سے پرے کسی بھی عرصے کے لیے)	ماہانہ 0.25% یا اس کا کچھ حصہ، کم از کم -/1,500 روپے اصل پر کم از کم -/5,000 روپے
	اہم: ایپورٹ L/C کی صورت میں عائد تمام آئٹمی ان لینڈ L/C پر بھی لاگو ہوں گے۔	
v	کمیشن (دستاویزی)	0.10% سروں چارجز کم از کم 2,000 روپے
vi	متضاد دستاویزات کی پیشکش کے لیے ڈسکرنٹنس فیس	ڈسکرنٹنس فیس -/2,000 روپے مع دستاویزات کے ہر مجموعے کے لیے۔ -/350 روپے سوئٹ / کوریئر چارجز اور سوئٹ / کوریئر

4- سیف ڈپازٹ لاکر

i	کی ڈپازٹ	-/3,500 روپے (قابل واپسی)
ii	بریکنگ چارجز	اصل پر کم از کم -/5,000 روپے
iii	آپشن 1	
	سالانہ زکریہ (پیشگی ادا کیا جائے گا)	
i	چھوٹا	-/4,000 روپے سالانہ
پ	درمیانہ	-/6,000 روپے سالانہ
ج	بڑا	-/8,000 روپے سالانہ
د	آپشن 2 صرف تمام ہیڈنگز اکاؤنٹ کے لیے دستیاب ہے۔	
ب	درج ذیل اوسط ماہانہ بیننس برقرار رکھنے کی صورت میں لاکر زمرہ:	
i	چھوٹا	-/750,000 روپے
پ	درمیانہ	-/1,000,000 روپے
ج	بڑا	-/1,500,000 روپے

اہم: تمام مفت خدمات بینک کی طرف سے اس کی واحد صوابد پر مبنی کی جاتی ہیں۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

5- چیک بک

i	چیک بک کا اجرا	
i	کرنٹ اکاؤنٹ	-/20 روپے فی ورق
ii	سیونگز اکاؤنٹ	-/20 روپے فی ورق
iii	فنان کرنسی اکاؤنٹ	-/20 روپے کے مساوی فی ورق
ب	چیکس کی اسٹاپ سہولت	-/350 روپے فی چیک اور اگر 2 چیکس سے زیادہ کی درخواست کی گئی تو فی درخواست -/1000 روپے (اگر چھ چیکس کا تعلق ایک ہی چیک بک سے ہے)
د	چیک سیف سہولت کیپٹل اینڈ ڈسٹریکشن چارجز	-/300 روپے

6- متبادل ڈیپوزیٹیشن

i	ڈیپٹ کارڈ کا اجرا، تبدیلی اور تجدید:	
i	ڈیپٹ کارڈ کا اجرا	مفت
ب	متبادل ڈیپٹ کارڈ (گمشدہ / خراب ہونے کی صورت میں)	
i	یونین پے انٹرنیشنل	کلاسک -/1,100 روپے گولڈ -/1,350 روپے
ii	ماسٹر کارڈ	کلاسک -/1,350 روپے گولڈ -/1,850 روپے پلائئم -/4,000 روپے
	ایف سی وائی ڈیپٹ کارڈ (یو ایس ڈی) -/5 USD	
	پے پاک	اسٹینڈرڈ: -/1,000 روپے نیکسٹ جن بینکنگ پے پاک ڈیپٹ کارڈ: -/1,500 روپے پے پاک اور ڈیپٹ کارڈ: -/1,500 روپے
ج	ڈیپٹ کارڈ سالانہ فیس (ای ایم وی / پے ڈیپٹ کارڈ کے لیے پیشگی ادائیگی)	
i	یونین پے انٹرنیشنل	کلاسک -/2,200 روپے گولڈ -/2,700 روپے
ii	ماسٹر کارڈ	کلاسک -/2,700 روپے گولڈ -/3,700 روپے پلائئم -/8,000 روپے
	ایف سی وائی ڈیپٹ کارڈ (یو ایس ڈی) -/15 USD	
	پے پاک	اسٹینڈرڈ: -/2,000 روپے نیکسٹ جن بینکنگ پے پاک ڈیپٹ کارڈ: -/3,000 روپے پے پاک اور ڈیپٹ کارڈ: -/3,000 روپے
	ADC ٹرانزیکشن چارجز	
i	اسے ٹی ایم ٹرانزیکشن چارجز	-/35 روپے فی ٹرانزیکشن (صرف مالیاتی ٹرانزیکشن پر)
ب	اسے ٹی ایم پر بیننس (مشتکر)	ایم بینٹ اور 1 - لنک کے لیے -/5.50 روپے
ج	البرکہ اسے ٹی ایمز استعمال کرنے والے بیرونی (سوچ)	-/5 روپے فی رسید
	کسٹمرز کے لیے اسے ٹی ایم ٹرانزیکشن ریسٹریکشن چارجز	
د	اسے ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے پیشگی بیننس	مفت
ه	فنزڈ ٹرانسفر (اندرون البرکہ بینک)	مفت
و	”راست“ (RAAST) کے ذریعے فنڈ ٹرانسفر	مفت
ز	اسے ٹی ایم / ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے انٹرنیشنل فنڈ ٹرانسفر	-/25,000 روپے ماہانہ تک: صفر -/25,000 روپے ماہانہ سے زائد اضافی رقم کے لیے: ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1% 200 روپے، جو بھی کم ہو
ح	ڈیپٹ کارڈ آرڈریشن چارجز / فائل چارج بینک (لوکل اور انٹرنیشنل)	فی ٹیس -/500 ڈالر یا مساوی روپے
ط	ڈیپٹ کارڈ ڈوکومنٹ ریٹریول چارجز (مقامی ٹرانزیکشن کے لیے)	فی دستاویز -/250 روپے (فی ٹرانزیکشن)
iii	ایس ایم ایس الرش	
i	ڈیجیٹل بینکنگ الرش (شہول موبائل ایپ اور ای میل الرش)	مفت
پ	ایس ایم ایس الرش - مقامی کرنسی اکاؤنٹس (ماہانہ پیشگی)	افراد کی اکاؤنٹس کے لیے -/200 روپے ماہانہ کمپنی اکاؤنٹس کے لیے -/500 روپے ماہانہ
ج	ایس ایم ایس الرش - فارن کرنسی اکاؤنٹس (سالانہ پیشگی)	8 ڈالر یا مساوی

7- بیرون پاکستان ڈیبٹ کارڈ کا استعمال

i	POS ٹرانزیکشن فیس۔ بین الاقوامی (بشمول ای کامرس)
ii	یونین پی انٹرنیشنل
iii	ماسٹر کارڈ
iv	اسے ایم ٹرانزیکشن فیس بشمول بٹلیس انکوائری اور بین الاقوامی ٹرانزیکشن
v	یونین پی انٹرنیشنل
vi	ماسٹر کارڈ
vii	ایف سی وائی ڈیبٹ کارڈ (پوائس ڈی)
viii	دستاویز کی بحالی کے چارجز (بین الاقوامی بین دین کے لیے)

8- کیونٹیشن میرف

i	کوریئر
ii	تمام سمندر پار مقامات کے لیے
iii	اندرون ملک چارجز
iv	عام ڈاک (سمندر پار)
v	کیبل/ٹیلیکس/سوفٹ چارجز

9- رجسٹرڈ پوسٹ

i	بیرون پاکستان
ii	اندرون پاکستان

10- ٹیلی فون اور سرٹیفکیٹ

i	آڈیٹرز سے بٹلیس کی تصدیق
ii	صارفین کی طرف سے کریڈٹ رپورٹ کا حصول
iii	دوران سال ادا شدہ منافع اور ٹیکس/ذکوہ کا سرٹیفکیٹ
iv	فنانس/کریڈٹ ور تھیں سرٹیفکیٹ
v	پروسیجرز ریکارڈ بین سرٹیفکیٹ اور اکلیٹمنٹ سرٹیفکیٹ
vi	بٹلیس تفریق بین سرٹیفکیٹ
vii	اکاؤنٹ منٹیننس سرٹیفکیٹ

11- ٹیلی فون اور ٹیکس

i	ٹیلی فون چارجز
ii	ٹیکس
iii	اندرون شہر
iv	اندرون ملک
v	بیرون ملک

12- متفرقات

i	گوشوارے کی نقل
ii	ڈورمنٹ اکاؤنٹ فعال کرنے کے چارجز

ج

i	اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز
ii	ہولڈنگ چارجز (جنگلی)
iii	کیش منیجمنٹ چارجز
iv	غیر ملکی ٹرانزیکشن/خریدار پر کریڈٹ انفارمیشن رپورٹ
v	سی آئی بی رپورٹ
vi	SECP کے رجسٹر اسے رجسٹریشن کے چارجز
vii	کورپوریٹ (مراعاتی) چارجز
viii	اسٹینڈنگ انسٹرکشنز
ix	ٹیکس انڈسٹری
x	غیر ملکی کرنسی پر کیش ہینڈلنگ چارجز
xi	دستاویز کی بحالی کی فیس
xii	ایس بی بی/ای این بی بی/ای سی بی کا چارج
xiii	3 ماہ سے زائد پرانی ٹرانزیکشن ایڈوانسز کے لیے
xiv	درخواست
xv	روپے کی چیک یا واؤچر
xvi	(ج) 3 سال یا زائد پرانا 500 روپے کی چیک یا واؤچر

ک

1	ٹرانزیکشن چارجز (خریدار/فوت/مقتضی)
2	سالانہ ہولڈنگ چارجز
3	IPS اسٹینڈ

12- اوور دی کاؤنٹر چارجز (OTC پورٹل)

ٹیکس: SECP اور ٹیکس ہاؤس اسکول سٹم - 50 روپے ہیمپٹ چارجز

ج

1. کسٹمر (کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز) کو بینک کی جانب سے پیش کی گئی درج ذیل مفت سروسز اس کی مکمل صوابدید پڑتی ہیں: ایسے کلائنٹس جو کم از کم بائینٹیل 1 ملین روپے (50 ہزار امریکی ڈالر، 50 ہزار برطانوی پاؤنڈ، 50 ہزار یورو، 5.5 ملین جاپانی ین، ایک لاکھ 50 ہزار یو ایس ڈالر) کے ساتھ، i.e. کرنٹ/سیونگ/ٹرم ڈی پاؤنڈ اکاؤنٹ رکھتے ہوں۔

i	DD/TT/PO (LCY/FCY) کا چارج (کارپوریٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ 50 اور انفرادی کسٹمر کے لیے 25)
ii	PO/DD/FDD کی منسوخی
iii	چیک بک کا چارج
iv	چیک کی ادائیگی کو روکنا
v	چیک ٹران
vi	مقامی وصولی

ز	مستقل لاگو ہدایات
ح	ڈیجیٹل اسٹیٹمنٹ
ط	اکاؤنٹ منیجمنٹ سروسز/ سٹیک ہولڈر
ی	زکوٰۃ سرٹیفکیٹ
ک	مفت اسے ٹی ایم/ ڈیجیٹل کارڈ (پے پاک) فیس کی چھوٹ صرف پے پاک کارڈ کے لیے دستیاب ہے، دیگر تمام ڈیجیٹل کارڈ پر موجودہ SOC کے مطابق نہیں لاگو ہوگی،
ل	ایسی دن خصوصی کیئرنگ
م	شہروں کے مابین کیئرنگ
ن	کیئرنگ سروسز کے ذریعے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو دیکھنے تک رسائی
2	کسٹمر (کنٹریٹ اور سیگنلر اکاؤنٹ ہولڈرز) کو اکاؤنٹ کھولنے یا ہر مہینے 10,000/- کیٹنٹس برقرار رکھنے پر بینک کی جانب سے پیش کی گئی درج ذیل مفت سروسز اس کی مکمل صوابیہ پٹنی ہیں:

ا	چیک بک (25 چیکس)
ب	ہر ماہ 3 پے آرڈرز
ج	اکاؤنٹ کی درج ذیل کیئرنگ یا کسی بھی صورت میں سروس چارجز کی مددیں ہر طرح کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں:
ا	طالب علم
ب	محققین زکوٰۃ
ج	تنخواہ اور پیشہ کے لیے گورنمنٹ/سیٹی گورنمنٹ اداروں کے ملازمین
اہم:	
1	درج بالا کے ساتھ ساتھ، وہ ڈیجیٹل ٹیکس، ایسیٹس، ڈیوٹی، صوبائی وفاقی ٹیکس یا وقتاً فوقتاً لگائے جانے والے حکومتی ٹیکسز اکاؤنٹ پر لاگو ہوتے ہیں اور درج بالا ٹیکس کے علاوہ جہاں بھی اطلاقی ہو، چارج کیے جاتے ہیں۔
2	بینک سروس کے ساتھ انتظام کے مطابق ان سروسز کے چارجز وصول کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جو اس شیڈول میں درج نہیں ہیں اور آرائس بی ایم/شرعی بورڈ سے خصوصی اجازت سے مشروط ہیں۔
3	یہ ٹیرف 6 ماہ کے لیے مؤثر ہے اور پاکستان میں تمام برانچوں پر لاگو ہے۔
4	ABPL اسٹاف کے لیے مفت چھوٹ اور رعایتیں بینک کی ہیومن ریسورس پالیسی کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔
5	شرعی بورڈ سے منظوری کے بعد کوئی ایسی نئی سروس متعارف کرانے کی صورت میں جس کی بینک اس میعاد کے دوران ٹیکس چارج کرتا ہے، وصول شدہ تصوری جائے گی اور اس کے شیڈول میں الگ درج کی جائے گی۔
6	بینک کی طرف سے کسٹمر کو پیش کردہ تمام سروسز بینک کی واحد صوابیہ پر پیش کی جاتی ہیں۔
7	کنٹریٹ اکاؤنٹ کی بنیاد چیکنگ "Qard" ہے، چیک کنٹریٹ اکاؤنٹ سروسز کو کسی بھی قسم کی سہولت پر کوئی اضافی فوائد یا دست برداری نہیں دے گا۔

اہم:

- 1- دیگر تمام ڈیجیٹل کارڈ اقسام پر موجودہ SOC کے مطابق فیس لاگو ہوگی۔
- 2- حادثاتی موت تکفل اور نقد رقم نکالنے کی سہولت (اسے ٹی ایم اور کارڈ کے ذریعے) صرف انفرادی صارفین کو اہلیت کے معیار کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ اسٹاک/انوینٹری کو ترجیح صرف اہل کاروباری صارفین کے لیے دستیاب ہوگی۔ ایک "نیر-1" صارف کو پچھلے ماہانہ اوسط بتلیس (MAB) -/100,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر "نیر-2" میں آپ گریڈ کیا جاسکتا ہے۔
- 3- 1 ملین روپے یا زائد کا ماہانہ اوسط بتلیس برقرار رکھنے والے تمام کسٹمرز کو آٹو فنانس کیئر پر ترجیحی ریش پیش کیے جائیں گے۔

3- البرکے کنزرویٹو ریزس پارٹنر اکاؤنٹ

اکاؤنٹ کھولنے اور -/25000 روپے یا زائد ماہانہ اوسط بتلیس (MAB) برقرار رکھنے پر درج ذیل مفت خدمات دستیاب ہوں گی۔

ا	چیک بک (25 اورانی)
ب	پے آرڈر
ج	پہلے سال کے لیے مفت اسے ٹی ایم/ ڈیجیٹل کارڈ (پے پاک)
د	ایس ایم ایس الرش
ہ	ہولڈر ٹیلیفون
و	انٹرنیٹ کیئرنگ
ز	ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
ح	ای روڈ کیئرنگ
ط	اسٹاپ پیمنٹ

ز	مستقل لاگو ہدایات
ح	ڈیجیٹل اسٹیٹمنٹ
ط	اکاؤنٹ منیجمنٹ سروسز/ سٹیک ہولڈر
ی	زکوٰۃ سرٹیفکیٹ
ک	مفت اسے ٹی ایم/ ڈیجیٹل کارڈ (پے پاک) فیس کی چھوٹ صرف پے پاک کارڈ کے لیے دستیاب ہے، دیگر تمام ڈیجیٹل کارڈ پر موجودہ SOC کے مطابق نہیں لاگو ہوگی،
ل	ایسی دن خصوصی کیئرنگ
م	شہروں کے مابین کیئرنگ
ن	کیئرنگ سروسز کے ذریعے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو دیکھنے تک رسائی
2	کسٹمر (کنٹریٹ اور سیگنلر اکاؤنٹ ہولڈرز) کو اکاؤنٹ کھولنے یا ہر مہینے 10,000/- کیٹنٹس برقرار رکھنے پر بینک کی جانب سے پیش کی گئی درج ذیل مفت سروسز اس کی مکمل صوابیہ پٹنی ہیں:
ا	چیک بک (25 چیکس)
ب	ہر ماہ 3 پے آرڈرز
ج	اکاؤنٹ کی درج ذیل کیئرنگ یا کسی بھی صورت میں سروس چارجز کی مددیں ہر طرح کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں:
ا	طالب علم
ب	محققین زکوٰۃ
ج	تنخواہ اور پیشہ کے لیے گورنمنٹ/سیٹی گورنمنٹ اداروں کے ملازمین

اہم:

- 1- درج بالا کے ساتھ ساتھ، وہ ڈیجیٹل ٹیکس، ایسیٹس، ڈیوٹی، صوبائی وفاقی ٹیکس یا وقتاً فوقتاً لگائے جانے والے حکومتی ٹیکسز اکاؤنٹ پر لاگو ہوتے ہیں اور درج بالا ٹیکس کے علاوہ جہاں بھی اطلاقی ہو، چارج کیے جاتے ہیں۔
- 2- بینک سروس کے ساتھ انتظام کے مطابق ان سروسز کے چارجز وصول کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جو اس شیڈول میں درج نہیں ہیں اور آرائس بی ایم/شرعی بورڈ سے خصوصی اجازت سے مشروط ہیں۔
- 3- یہ ٹیرف 6 ماہ کے لیے مؤثر ہے اور پاکستان میں تمام برانچوں پر لاگو ہے۔
- 4- ABPL اسٹاف کے لیے مفت چھوٹ اور رعایتیں بینک کی ہیومن ریسورس پالیسی کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔
- 5- شرعی بورڈ سے منظوری کے بعد کوئی ایسی نئی سروس متعارف کرانے کی صورت میں جس کی بینک اس میعاد کے دوران ٹیکس چارج کرتا ہے، وصول شدہ تصوری جائے گی اور اس کے شیڈول میں الگ درج کی جائے گی۔
- 6- بینک کی طرف سے کسٹمر کو پیش کردہ تمام سروسز بینک کی واحد صوابیہ پر پیش کی جاتی ہیں۔
- 7- کنٹریٹ اکاؤنٹ کی بنیاد چیکنگ "Qard" ہے، چیک کنٹریٹ اکاؤنٹ سروسز کو کسی بھی قسم کی سہولت پر کوئی اضافی فوائد یا دست برداری نہیں دے گا۔

1- شہقات اکاؤنٹ

شہقات اکاؤنٹ ہولڈرز کو درج ذیل مفت سروسز اکاؤنٹ کھولنے اور کم از کم -/10,000 روپے کا ماہانہ اوسط بتلیس برقرار رکھنے پر پیش کی جاتی ہیں

ا	25 صفحات کی پہلی چیک بک
ب	پہلے سال کے لیے مفت اسے ٹی ایم/ ڈیجیٹل کارڈ (پے پاک)
ج	فون بینکنگ
د	ایس ایم ایس الرش
ہ	ای اسٹیٹمنٹ
و	اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کی ڈیجیٹل کاپی
ز	نوٹ: مندرجہ بالا کے علاوہ کھاتہ کھولنے اور 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بتلیس برقرار رکھنے پر درج ذیل مفت خدمات بھی دستیاب ہیں
ح	لاکڑے کے سالانہ ٹیکس میں 100% تک رعایت (صرف چھوٹے لاکڑے) * ایک ٹیکس ٹیکس ** اور ٹیکس دھند رال کو رج ** * لاکڑے دستیابی کی صورت میں ** 1 ملین روپے کی زیادہ سے زیادہ حد کی شرط پر گزشتہ ماہ کے ماہانہ اوسط بتلیس کا 100% **/30,000 تک اصل بتلیس، جو بھی کم ہو

2- البرکے کنزرویٹو ریزس

اکاؤنٹ کھولنے یا درج ذیل Tiers کے کم از کم ماہانہ اوسط بتلیس برقرار رکھنے پر سروسز پیش کی جاتی ہیں

1	Tier 25: ہر ماہ روپے سے 99.99 ہزار روپے تک
ا	چیک بک
ب	پے آرڈر
ج	پہلے سال کے لیے مفت اسے ٹی ایم/ ڈیجیٹل کارڈ (پے پاک)

9- اسٹاف سیلری اکاؤنٹس کے لیے

صرف البرک بینک (پاکستان) لمیٹڈ کے مستقل اور معاہداتی (آن کنٹریکٹ) ملازمین کے لیے اسٹاف سیلری اکاؤنٹ پر مندرجہ ذیل چار جزی سے تشکیل دیا جائے گا۔

ا	پے آرڈر کا اجراء
ب	پے آرڈر کی منسوخی
ج	چیک بک کا اجراء
د	چیکس کی اسٹاف منہمت
ه	چیکس کی ایگلی کلیمیشن
و	انٹرنی آؤٹ وارڈ کسٹمرنگ
ز	اکاؤنٹ منٹیننس سرٹیفکیٹ
ح	سال کے دوران منافع کی ادائیگی اور رزرو کوئی کنٹریکٹ
ط	ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
ی	اسٹینڈنگ انٹر کسٹرفیس
ک	ڈیبٹ کارڈ کا اجراء (یو پی آئی: کلا سب اور گولڈ: ماسٹر کارڈ: سلور اور گولڈ: پے پاک)
ل	ایس ایم ایس الرٹس
م	لاکر کے لیے کی ڈپازٹ
ن	لاکر کے سالانہ کرائے میں 50 فیصد چھوٹ (چھوٹا، درمیانہ اور بڑا)

نوٹ: چھوٹ یا اسٹیلی ٹھوس چار جزی میں دیا جائے گا، تمام دیگر چار جزی مثلاً فیڈرل ایکسٹرنل ڈیوٹی، جھوٹی لیویر، میگزین، پوسٹج، کوریئر وغیرہ اصل کے مطابق وصول کیے جائیں گے

د فنانسنگ سروسز

1- فنانسنگ

ا	قانونی معاہدہ، ویلیویشن چار جزی، سرچ رپورٹ چار جزی	بمطابق اصل
ب	اور ٹیگ چار جزی کی اسٹامپ ڈیوٹی	بمطابق اصل
ج	متعلق چار جزی (یعنی ڈاکومنٹ سیوریٹی، سیوریٹی کاغذ وغیرہ)	بمطابق اصل
د	اور ان کی منٹیننس وغیرہ	بمطابق اصل
ه	سرچ پورٹ چار جزی	بمطابق اصل
و	گودام اسٹاف	بمطابق اصل
ز	کیمپرز/چوکیدار/مقدم	بمطابق اصل
ح	گودام/ٹیکسٹن چار جزی	بمطابق اصل
ط	دیگر حادثاتی اخراجات مع بیمہ، پریمیا ایگل چار جزی وغیرہ	بمطابق اصل
ی	SECP کے رجسٹر سے رجسٹریشن کے چار جزی	بمطابق اصل
ک	کوین کی کلیمیشن (ہمارے زیر بار دیگر بینکس/سیونگ سینیور کی جانب سے جاری کردہ شریعت سے ہم آہنگ سرکاری سرٹیفکیٹس پر)	بمطابق اصل
ل	رہن رکھنے پر ڈیپوٹیری آرڈر کا اجراء	-500 روپے فی ڈیپوٹیری آرڈر
م	جائیداد کی خلاصی مشارک ٹائٹلس کے علاوہ:	فی جائیداد -2,500 روپے مقرر ذریعہ قانونی / وینڈر فیس
ن	فیس پارٹی سے خلاصی کی رجسٹریشن سے پہلے بینک آفیسر کو بلائے کے وقت وصول کی جائے گی	
ی	صارف کے افسس کے چار جزی کے تعین/آپ گریڈیشن کے لیے NOC کا اجراء	پروسیڈنگ/ہینڈلنگ چار جزی -5,000 روپے، تاہم سی آئی بی، سی ای بی، ایس ایم ای کا ہیڈ یا جائزہ دہی درج بالا چار جزی کو کم/دستبردار کرنے کا حق رکھتی ہے۔

4- البرک بنات اکاؤنٹ

اکاؤنٹ کھولنے اور -10,000 روپے یا زائد ماہانہ اوسط بیلنس (MAB) برقرار رکھنے پر درج ذیل مفت خدمات دستیاب ہوں گی:

ا	ہیمل چیک بک (25 اوراتی)
ب	پے آرڈر (3 ماہانہ)
ج	پہلے سال کے لیے مفت اسٹیٹ/ڈیبٹ کارڈ (پے پاک)
د	خصوصی فری آفرز
ه	جنگل کوریج*
و	اسال لاکر کی 50 فیصد سالانہ فیس سے اسٹیٹ (دستیابی سے مشروط)
ز	کنزرویٹو فیس پروسیڈنگ فیس میں 50 فیصد چھوٹ
ح	آؤٹائٹس کنسرو میں ترجیحی ریٹ کی پیشکش**

* البرک بنات اکاؤنٹ ہولڈرز کو -25,000 روپے یا زائد ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر ہی جنگل کوریج کی پیشکش کی جائے گی۔
** ایسے البرک بنات اکاؤنٹ ہولڈرز کو جنہوں نے گزشتہ تین ماہ کے دوران -500,000 روپے یا زائد کا اوسط بیلنس برقرار رکھا ہوگا، ترجیحی ریٹ کی پیشکش کی جائے گی۔

5- تعبیر سیونگ پلان

ا	TSP جنریشن سے 3 سال مکمل ہونے سے قبل مکمل چار جزی	زبردیا کا 0.12% سالانہ
ب	کسی وجہ سے اضافی فونی چار جزی (Extra Mortality)	ہر کیس کی بنیاد پر اضافی بار لاگو ہوگا
ج	مستقل لاگو دہایات	مفت
د	ایس ایم ایس الرٹ	مفت

6- حج البرک

ا	مستقل لاگو دہایات	مفت
ب	ایس ایم ایس الرٹ	مفت

7- البرک فری لانس کرنٹ/سیونگ اکاؤنٹ

-10,000 روپے یا زیادہ سے اکاؤنٹ کھولنے یا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر درج ذیل مفت سروسز دستیاب ہوں گی۔

ا	مفت چیک بک (25 اوراتی)
ب	مفت پے آرڈرز
ج	پہلے سال کے لیے مفت اسٹیٹ/ڈیبٹ کارڈ (پے پاک)
د	ذاتی حادثے (موت اور مستقل معذوری) کے لیے مفت جنگل کوریج، کیش وڈرال (اسٹیٹ ایم/اوٹی سی)*
ه	زرمبادلہ کے ترجیحی نرخ
و	کنزرویٹو فیس کنسرو پر منافع کی شرح میں رعایت کی پیشکش**

i	کار سائز کے لیے: 3.00%
ii	پرو/پرسنل فنانس بھوت کے لیے: 3.00%
iii	البت کے لیے: 1.00%

* 100,000 اور اس سے زیادہ روپے سے اکاؤنٹ کھولنے اور ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنے پر۔

** گزشتہ 3 ماہ میں 250 ہزار اور اس سے زیادہ ماہانہ اوسط بیلنس رکھنے والے صارفین کو کیش بک کی بنیاد پر ترجیحی شرح کی پیشکش کی جائے گی۔

8- فون بینکنگ

درج ذیل خدمات پر عام چار جزی پر 50% چھوٹ دی جاتی ہے:

ا	1 سال تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ
ب	چیک بک کی اسٹاف منہمت/چیک بک/پے آرڈر
ج	پے آرڈر ڈیپازٹ ڈرافٹ کا اجراء

ل اسٹاک کے معائنے کے چار جز: جو بینک کی ملکیت نہیں ہے

بینک آفیسر کے زیر اہتمام اندرون شہر
1۔ 1,500 روپے برائے ایس ایم ای / کمرشل کانسٹریکشن
ب۔ 2,000 روپے برائے کارپوریٹ کانسٹریکشن
بیرون شہر: اصل کے مطابق

2	جلد خرید پر قیمت (DM / اجارہ)	کسٹمر اور بینک کے مابین متفقہ شرائط کے مطابق
ن	ایگری فنانس	کارروائی نہیں (نئی سہولت) = 1.00 ملین روپے تک: 3,000 روپے فلیٹ 1.00 ملین روپے سے زائد 10.00 ملین روپے تک: 5,000 روپے فلیٹ 10.00 ملین روپے اور زائد: 10,000 روپے فلیٹ ii۔ پروسیجرنگ چارجز (تجیدیدی سہولتیں) 5.00 ملین روپے تک: 3,000 روپے فلیٹ 5.00 ملین روپے اور زائد: 5,000 روپے فلیٹ "بھٹو کی اجازت مئی 1979۔ سی آئی ایس ایم ای کی اجازت سے ہوگی iii۔ سمونٹ ٹوٹ (ڈیمک لیٹر) اقساط کے لیے جو پہلے ہی واجب الادا ہیں پہلے سے واجب الادا اقساط پر: 1,000 روپے iv۔ لیگل چارجز 15,000/- روپے v۔ ٹریڈنگ کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنا اصل کے مطابق

2- کارپوریٹ / انویسٹمنٹ بینکنگ:

ا پروسیجرنگ (نئے / تجیدید) اسٹاک ایکسچینج اور ایڈوائزری
فیس (فٹڈ اور ٹران فٹڈ)

ایس ایم ای / کمرشل سٹریٹ کے لیے

سہولت لینے	فیس (روپے سال)	سہولت لینے	فیس (روپے سال)
10	5,000	40	27,000
20	10,000	80	52,000
40	20,000	200	130,000
50	25,000	300	200,000
100	50,000	500	330,000
150	75,000	1,000	660,000
300	150,000	3,000	1,400,000
400	200,000	5,000	2,000,000
400 سے زائد	250,000	10,000	2,700,000
		10,000 سے زائد	3,500,000

* اوپر درج فیس صرف پہلی رقم کی اجراء کے وقت ہر صارف پر لاگو ہوگی۔ CIBG/CSBME کے بیڈ یا مجاز اتھارٹی کو
کاروباری تعلقات کی بنیاد پر فیس کو فیس بنیاد پر چارجز میں سمیڈی فیس میں چھوٹ کی منظوری دینے کا اختیار حاصل ہے۔
طے شدہ / مذکورہ شدہ چارجز آخر لیٹر میں درج کرنا ضروری ہوں گے۔

II انویسٹمنٹ بینکنگ ٹرانزیکشنز:

کلائنٹ سے بات چیت کے ذریعے طے شدہ ایڈوائزری / آرٹیمس فیس کو CIBG/RSBME کے سربراہ مجاز اتھارٹی کی منظوری سے
حتمی شکل دی جائے گی۔ اتفاق شدہ / بات چیت کے ذریعے طے شدہ فیس کو فری / لیمٹڈ فیس میں بیان کیا جائے گا۔

III ای سی آئی بی رپورٹ چارجز

ع	دیگر درخواستیں	کلائنٹ کی جانب سے وصول ہونے والی متفرق درخواستوں پر 10,000/- روپے کارروائی / اینڈنگ چارجز۔ تاہم، سی آئی بی ٹی آئی بی ایس ایم ای کے سربراہ یا محکمہ کام درج بالا چارجز کم / دستبردار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
---	----------------	--

ف انویسٹمنٹ ایجنسی اور یا سیکورٹی ٹریڈ فیس

(فلسطینی اسٹریٹجک / ایڈوائزنگ فیس / ڈاؤن میٹھیں فیس:
متفقہ شرائط کے مطابق
ب) (انویسٹمنٹ ایجنسی فیس) 1,000,000 روپے یا سہولت کا
0.05% رقم (جوزیادہ ہو) تقسیم کے وقت اور ہر سہولت کے
سال پورا ہونے پر ہر سال قابل ادائیگی ہوگی۔
ج) سیکورٹی ٹریڈ فیس 500,000 روپے یا سہولت کی رقم کا
0.05% (جوزیادہ ہو) پہلی بار تقسیم کے وقت اور ہر سہولت کے
سال پورا ہونے پر ہر سال قابل ادائیگی ہوگی۔ سی آئی بی ٹی ایس
ایم ای کے سربراہ درج بالا فیصد کم / دستبردار کر سکتے ہیں۔

3- ایس ایم ای / کمرشل اینڈ کارپوریٹ

ا	ڈاؤن کونٹ پروسیجرنگ فیس	بطابق اصل یا جو منظور شدہ ہے
ب	آئمز ویلڈیشن	بطابق اصل
ج	ایکسٹرنل ایجنسی کی فیس	بطابق اصل
د	ویبیکل ریسٹوریشن چارجز	بطابق اصل
و	چیک ریسٹوریشن چارجز	بطابق اصل
و	دیگر اجارہ ایسٹس کے ری پوزیشن چارجز	بطابق اصل
ز	چیک ریسٹوریشن چارجز	600/- روپے
ح	ایس ایم ای فلیٹ فنانس	
ا	جلد خریداری / ہائے آؤٹ کانٹریکٹ	12 تا 84 ماہ کے اندر = 4.00 فیصد نوٹ: شرح فیصد باقی ماندہ مشترکہ پوسٹ / اصل بقایا جات پر قابل اطلاق ہے۔
ب	فٹڈنگ کمیسر کے لیے: سودے کی بندش میں جلد فروخت (اگر گاڑی آگنی / دستیاب ہے)	اصل واجب الادا رقم 8% فیصد
ج	تاخیر سے ادائیگی پر عقیبہ	ہر قسط کے لیے 50 روپے
د	رجسٹریشن سروس فیس (انجین یا ورسٹی سی کے مطابق مختلف ہوتی ہے)	بطابق اصل
و	ایس ایم ایس سروس فیس	50 روپے (ماہانہ)
و	ٹیکال کنٹری بیوٹن	ٹیکال کنٹری بیوٹن کی جانب سے بیان کردہ شرح کے مطابق
ز	جزوی تصفیہ کی قیمت: اصل بقایا جات کا کم از کم 20 فیصد (نوٹ: فنانس پیپورٹی تک سال میں ایک بار اجازت ہے)	جزوی ادائیگی کی رقم 8% فیصد
ح	لیگل ٹوٹس چارجز	1500 روپے (نی ٹوٹس / خط)
ط	لیگل دستاویزات کی اسامپ ڈیوٹی (صارف کے ذمہ قابل ادا)	اصل کے مطابق

4- کنزرویمر آؤف فنانس

ا	ایپی لینیشن پروسیجرنگ فیس (نئی / استعمال شدہ)	10,000/- روپے تک (ایک مرتبہ درخواست منظور ہونے پر ناقابل واپسی)
ب	(نوٹ: اصل پروسیجرنگ فیس کا تعین "کی فیکلس شیٹ" کارساز کسٹمر کے مفاد میں کیا گیا ہے۔)	
ج	ویز باؤس / کارنگ فیس برائے ریپوزیشن ڈوبیکل	اصل کے مطابق
د	ویبیکل ایلیویشن فیس	اصل کے مطابق (20,000/- روپے تک)
و	اکرم اسٹیشن چارجز	10,000/- روپے تک
و	قانونی دستاویزات کی اسامپ چارجز (صارف کی ذمہ داری)	بطابق اصل
ز	ویبیکل ریپوزیشن چارجز	15,000/- تا 100,000/- روپے
	دستاویز کی بحالی کے چارجز	1,000/- روپے

ح	رجسٹریشن سروس فیس (انجمن پاور-CC کے لحاظ سے مختلف)	بمطابق اصل
ط	ایس ایم ایس سروس فیس	-/50 روپے (ماہانہ)
ی	مکافل کنٹری بیوشن	مکافل کمپنی کے درج کردہ ریش کے مطابق
ک	جلد خرید/ فروخت قیمت	جلد خرید/ فروخت قیمت
	اہم: بقایا مشارکہ پنشن/ واجب الادا راس المال پر شرح	12 مہینوں کے اندر= 8% 13 سے 24 مہینوں کے اندر= 6% 25 سے 36 مہینوں کے اندر= 4% 37 سے 48 مہینوں کے اندر= 3% 49 سے 84 مہینوں کے اندر= 2%
ل	فنانسنگ کیس کے لیے: ڈبل کلوزر/ کنسلٹیشن میں جلد فروخت (اگر گاڑی آج بھی دستیاب ہو)	اصل بقایا رقم کا 8%
م	آپ فرنٹ ٹریڈر ٹیکہ سروس ایجوکیشن فیس	-/25,000 روپے تک
ن	ماہانہ ٹریڈر مینیجمنٹ فیس	-/1,800 روپے تک
س	ماہانہ ٹریڈر مانیٹرنگ فیس بعد از پیچورنی/ فنانس کی سہولت	-/1,800 روپے فی ماہ تک
ع	این ادی کا دو بارہ اجرا	-/1,000 روپے فی ماہ
ف	ٹریڈر کوٹ (نوٹ: فنانس پیچورنی کے بعد/ قبل از وقت بے آف، اگر سٹریٹجک سے ٹریڈر یونٹ خریدنا چاہے)	-/50,000 روپے تک
ص	ٹرانسفر فیس/ ڈیجیٹل فیس انسائین فیس انویسٹری پنشن کے لیے	-/5,000 روپے تک
ق	تاخیر سے ادا کی گئی جیٹ	فی قسط -/500 روپے
ر	جزوی سہولت قیمت:	
1	واجب الادا اصل (موجودہ) کے 15 فیصد تک مفت	
2	واجب الادا اصل (موجودہ) کے 15 فیصد سے زیادہ کسی بھی جزوی رقم کے لیے اضافی قیمت	
	13-24 ماہ کے اندر= 8%	
	25-36 ماہ کے اندر= 6%	
	37-48 ماہ کے اندر= 4%	
	49-60 ماہ کے اندر= 3%	
	اہم: جزوی سہولت، مجموعی فنانس فرم کے دوران ایک بار انجام دی جاسکتی ہے۔	
ش	لیگل نوٹس چارجز (فی نوٹس/ لیٹر)	-/1500 روپے
ت	محفوظ ٹرانزیکشن رسیدیں "ایس ٹی آر"، فیس	بمطابق اصل

5- کنزرویٹو باؤسنگ فنانس

ا	اپیلیکیشن پروسیجرنگ فیس	10 ملین روپے فنانسنگ تک = 5,800 روپے
		10 ملین روپے فنانسنگ سے زائد = 11,600 روپے (درخواست منظوری کے بعد قابل واپسی)
ب	بیرون ملک پاکستانی درخواست کی پروسیجرنگ فیس	-/25,000 روپے تک (قابل واپسی)
ن	بعد میں مرحلہ وار جائیداد جائز فنانس (برائے کنسٹرکشن/ بلڈنگ/ ریوینشن)	بمطابق اصل (-/10,000 روپے تک)
د	پراپرٹی ایویلیویشن چارجز	بمطابق اصل (-/15,000 روپے تک)
ھ	لیگل چارجز	بمطابق اصل
و	اکم اسٹیمین چارجز	بمطابق اصل (-/10,000 روپے تک)
ز	نیشنل ڈاؤنٹنس ویرٹیکل چارجز	بمطابق اصل (-/10,000 روپے تک)
ح	قانونی دستاویزات کی اسٹامپ چارجز (حارف کی ذمہ داری)	بمطابق اصل
ط	دستاویز کی بحالی کے چارجز	-/1,000 روپے
ی	السیٹ ریپوزیشن چارجز	بمطابق اصل
ک	رجسٹریشن فیس اور ٹائل ڈاؤنٹینشن چارجز	بمطابق اصل (-/40,000/-4,500,000 روپے)
ل	ڈرائیو بائی اپ پریل فیس	بمطابق اصل

م	ایس ایم ایس سروس فیس	-/50 روپے فی ماہ
ن	جلد خرید/ فروخت قیمت	جلد خرید/ فروخت قیمت
	اہم: بقایا مشارکہ پنشن/ واجب الادا راس المال پر شرح	خود= 24% = 4% خود= 25% = 24% = 3% ATF= 24% = 24% = 4%
س	جزوی بے باقی کی قیمت:	136% = 4 فیصد 37% = 24% = 3 فیصد
ع	نوٹ: 20 اقساط یا اصل واجب الادا رقم کے 25 فیصد، جو بھی کم ہو، کی حد سے تجاوز کسی بھی جزوی رقم پر شرح فیصد لاگو ہوتی ہے۔	
ف	جزوی بے باقی پروسیجرنگ فیس	1,000 روپے
ص	پراپرٹی مکافل/ انشورنس چارجز	مکافل/ انشورنس کمپنی کے درج ریش کے مطابق
ق	فیمل مکافل چارجز	مکافل/ انشورنس کمپنی کے درج ریش کے مطابق
ر	این ادی کا دو بارہ اجرا	-/1,000 روپے ہر بار
ش	تاخیر سے ادا کی گئی جیٹ	500 روپے فی قسط
ت	لیگل نوٹس چارجز (فی نوٹس/ لیٹر)	-/1500 روپے
	محفوظ ٹرانزیکشن رسیدیں "ایس ٹی آر"، فیس	بمطابق اصل

6- پراپرٹی فنانس

ا	گاڑی کے لیے بطور فنانس (ا)	15,000 روپے تک (ایک مرتبہ درخواست منظور ہونے پر قابل واپسی)
ب	ایپلیکیشن پروسیجرنگ فیس (نیا/ یوزر/ اپوینٹ)	اصل کے مطابق
ن	ویٹر باؤس پارکنگ فیس برائے ریپوزیشن ڈویژن	اصل کے مطابق (-/20,000 روپے)
د	اکم اسٹیمین چارجز	-/10,000 روپے تک
ھ	قانونی دستاویزات کی اسٹامپ چارجز (حارف کی ذمہ داری)	بمطابق اصل
و	ویٹیکل ریپوزیشن چارجز	-/15,000/-100,000 روپے
ز	دستاویز کی بحالی کے چارجز	-/1,000 روپے
ح	رجسٹریشن سروس فیس (انجمن پاور-CC کے لحاظ سے مختلف)	بمطابق اصل (-/10,000/-1,000,000 روپے)
ط	ایس ایم ایس سروس فیس	-/50 روپے (ماہانہ)
ی	مکافل کنٹری بیوشن	مکافل کمپنی کے درج کردہ ریش کے مطابق
ک	جلد خرید/ فروخت قیمت	جلد خرید/ فروخت قیمت
	اہم: بقایا مشارکہ پنشن/ واجب الادا راس المال پر شرح	12 مہینوں کے اندر= 8% 13 سے 24 مہینوں کے اندر= 6% 25 سے 36 مہینوں کے اندر= 4% 37 سے 48 مہینوں کے اندر= 3% 49 سے 84 مہینوں کے اندر= 2%
ل	آپ فرنٹ ویٹیکل ٹریڈر ٹیکہ سروس ایجوکیشن فیس	-/25,000 روپے تک
م	ماہانہ ٹریڈر مانیٹرنگ فیس	-/1,800 روپے تک
ن	ماہانہ ٹریڈر مانیٹرنگ فیس بعد از پیچورنی/ فنانس کی سہولت	-/1,800 روپے فی ماہ تک
س	این ادی کا دو بارہ اجرا	-/1,000 روپے فی ماہ
ع	ٹریڈر کوٹ (نوٹ: فنانس پیچورنی کے بعد/ قبل از وقت بے آف، اگر سٹریٹجک سے ٹریڈر یونٹ خریدنا چاہے)	-/50,000 روپے تک
ف	ٹریڈری انسائین فیس	-/5,000 روپے تک
ص	لیگل نوٹس چارجز (فی نوٹس/ لیٹر)	-/1500 روپے
ق	جزوی سہولت قیمت:	
1	واجب الادا اصل (موجودہ) کے 15 فیصد تک مفت	
2	واجب الادا اصل (موجودہ) کے 15 فیصد سے زیادہ کسی بھی جزوی رقم کے لیے اضافی قیمت	
	13-24 ماہ کے اندر= 6%	
	25-36 ماہ کے اندر= 4%	
	37-48 ماہ کے اندر= 3%	

ٹکافل کٹھنی کی جانب سے بیان کردہ شرح کے مطابق
ی جلد خریداری/بائے آؤ کا نرخ
نوٹ: شرح فیصد باقی ماندہ مشارکہ پیش/اصل بقایا جات پر لاگو ہوتی ہے۔

ک	این اوی کا دو بارہ اجراء	1,000 روپے، ہر بار
ل	تاخیر سے ادائیگی پر عقیبہ	500 روپے فی قسط
م	جزوی سٹلمنٹ کی قیمت:	
ا	اصل بقایا جات (موجودہ) کے 25.00 فیصد تک	بلا قیمت
ii	اصل بقایا جات (موجودہ) کے 25 فیصد کی حد سے تجاوز	36 ماہ کے اندر = 8 فیصد
	کسی بھی جزوی رقم کے لیے اضافی قیمت	37 ماہ (اور زائد) = 6 فیصد
	نوٹ: جزوی سٹلمنٹ سال میں ایک بار کی جاسکتی ہے۔	
ن	ایگل نوٹس چارجرز	1500 روپے (فی نوٹ/خط)
س	محفوظ ٹرانزیکشن رسیدیں "ایس ٹی آر" فیس	بطابق اصل

8- ٹکافل

ا	پہلے سال میں بینشٹری کی تبدیلی	منفت
ب	پہلے سال کے بعد بینشٹری کی تبدیلی	فی کیس - 1,000 روپے (بشمول FED)
ن	اضافی سرمایہ کاری	اضافی سرمایہ کاری کا 2% (بشمول FED)

9- رہنما ٹریول سروسز

درخواست پر وسیع تکفیس:
ج کے لیے: پے ناؤ ٹریول ناؤ "پنی این ٹی این" (صفر) روپے،
ٹریول ناؤ، پے لیڈ "پنی این ٹی این" - 3,000 روپے،
(ہر ساقی مسافر کے لیے 1,500 روپے)۔
عمر/ڈرم ڈسپنٹی ٹیشن کے لیے:
پے ناؤ ٹریول ناؤ "پنی این ٹی این" 1,500 روپے
ٹریول ناؤ، پے لیڈ "پنی این ٹی این" 3,000 روپے،
(ہر ساقی مسافر کے لیے 1,500 روپے)۔

ب	قانونی دستاویزات کی اسامپ چارجرز (صارف کی ذمہ داری)	بطابق اصل
ن	چیک سرین ایڈیشن چارجرز	-/400 روپے
د	آمدنی کے تحفینے کے چارجرز	10,000 روپے تک
ہ	ایس ایم ایس سروس فیس (صارف کی رضامندی سے مشروط)	50 روپے (ماہانہ)
و	ٹریول ٹکافل کوریج (کنٹیکٹ کی لاگت میں ٹریول ٹکافل کی قیمت بھی شامل ہے)	ٹریول ایجنٹ کی بیان کردہ شرح کے مطابق
ز	قسطوں کی سہولت کا جلد سٹلمنٹ	کوئی اضافی فیس نہیں
ح	این اوی کا دو بارہ اجراء	1,000 روپے ہر بار/مربع ایف ای ڈی
ط	تاخیر سے ادائیگی پر عقیبہ	500 روپے فی قسط
ی	ایگل نوٹس چارجرز (فی نوٹ/لیٹر)	1500 روپے
ک	محفوظ ٹرانزیکشن رسیدیں "ایس ٹی آر" فیس	بطابق اصل

10- ضمانتیں

ا	ہیل آف لیڈنگ یعنی شینگن بولڈ/ڈیلیوری آرڈر کے اجراء	-/1,800 روپے (مقررہ)
ب	ونیرہ کی بجائے شینگن کپیڈ کو جاری کردہ ضمانتیں	ضمیمہ سوم میں درج قابل اطلاق سلیپ کے مطابق۔ کم از کم
	ڈیوٹی مینٹنس کی جگہ کلکٹر آف کسٹمز کو جاری کردہ	-/2,000 روپے
ن	ضمانتیں	ضمیمہ سوم میں درج قابل اطلاق سلیپ کے مطابق
	قنصل/دیگر گارنٹی چارجرز	

ش	محفوظ ٹرانزیکشن رسیدیں "ایس ٹی آر" فیس	بطابق اصل
ت	تاخیر سے ادائیگی پر عقیبہ	500 روپے فی قسط

اہم: جزوی سٹلمنٹ، مجموعی فنانس ٹرم کے دوران ایک بار انجام دی جاسکتی ہے۔
گروپ: ہیڈ ریشل بینکنگ یا مجاز اتھارٹی برکسی سے اپنے کاروباری تعلقات کی بنیاد پر کسٹمر فنانس چارجرز میں رعایت/بھٹو کی منظوری دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔

تیار گھر فلیٹ کے لیے بطور ضمانت اسامپ (B)

ا	درخواست پر وسیع تکفیس	-/15,000 روپے تک
ب	بعد میں مرحلہ وار جائیداد جائزہ فیس	بطابق اصل (-/10,000 روپے تک)
	(برائے سٹلمنٹ/بلڈ/ریزیڈنٹیشن)	
ن	پراپرٹی ایویلیویشن چارجرز	بطابق اصل (-/15,000 روپے تک)
د	ایگل چارجرز	بطابق اصل
ہ	انکم سٹیشن چارجرز	بطابق اصل (-/10,000 روپے تک)
و	ٹائل ڈاکومنٹس ویٹیفیکیشن چارجرز	بطابق اصل (-/10,000 روپے تک)
ز	قانونی دستاویزات کی اسامپ چارجرز (صارف کی ذمہ داری)	بطابق اصل
ح	دستاویز کی بحالی کے چارجرز	-/1,000 روپے
ط	السیفٹ ریچرڈیشن چارجرز	بطابق اصل
ی	ریزیڈنٹ فیس اور ٹائل ڈاکومنٹس چارجرز/ٹرانسفر ایجنٹ مارنگ چارجرز	بطابق اصل (-/40,000 تا -/4,500,000 روپے)
ک	ڈرائیو بائی اپریل فیس	بطابق اصل
ل	ایس ایم ایس سروس فیس	-/50 روپے فی ماہ
م	چیک سرین چارجرز	-/400 روپے تک (فی ٹرانزیکشن)
ن	جلد خرید/فروخت قیمت	12 مہینوں کے اندر = 8%
	اہم: (بقایا مشارکہ پینس) واجب الادا رس المال پر	13 سے 24 مہینوں کے اندر = 6%
	شرح فیصد قابل اطلاق ہے)	25 سے 36 مہینوں کے اندر = 4%
		37 سے 48 مہینوں کے اندر = 3%
		49 سے 84 مہینوں کے اندر = 2%
س	پراپرٹی ٹکافل/انشورنس چارجرز	ٹکافل/انشورنس کمپنی کے درج رٹس کے مطابق
ع	قلمی ٹکافل چارجرز	ٹکافل/انشورنس کمپنی کے درج رٹس کے مطابق
ف	این اوی کا دو بارہ اجراء	-/1,000 روپے ہر بار
ص	تاخیر سے ادائیگی کے چارجرز	-/500 روپے ہر بار
ق	ٹرانزیکشن کی محفوظ رسیدوں (STR) کی فیس	بطابق اصل

7- کسٹمر سولر فنانس

ا	درخواست پر وسیع تکفیس	10,000 روپے تک
	(نیا/استعمال شدہ)	(درخواست منظور ہونے کے بعد ناقابل واپسی)
ب	دو بارہ جیل میں لیے گئے آلات کے لیے گودام پارکنگ فیس	بطابق اصل
ن	سولر آلات کی جانچ پڑتال کے چارجرز	بطابق اصل (20,000 روپے تک)
	(صرف استعمال شدہ کے لیے)	
د	آمدنی کے تحفینے کے چارجرز	10,000 روپے تک
ہ	قانونی دستاویزات کی اسامپ چارجرز (صارف کی ذمہ داری)	بطابق اصل
و	سولر آلات دو بارہ جیل میں لینے کے چارجرز	بطابق اصل
ز	دستاویزات بحالی کے چارجرز	1,000 روپے
ح	ایس ایم ایس سروس فیس	50 روپے (ماہانہ)

234,000	117,000	60,000,001	62,500,000
243,750	121,875	62,500,001	65,000,000
253,500	126,750	65,000,001	67,500,000
263,250	131,625	67,500,001	70,000,000
273,000	136,500	70,000,001	72,500,000
282,750	141,375	72,500,001	75,000,000
292,500	146,250	75,000,001	77,500,000
302,250	151,125	77,500,001	80,000,000
312,000	156,000	80,000,001	82,500,000
321,750	160,875	82,500,001	85,000,000
331,500	165,750	85,000,001	87,500,000
341,250	170,625	87,500,001	90,000,000
351,000	175,500	90,000,001	92,500,000
360,750	180,375	92,500,001	95,000,000
370,500	185,250	95,000,001	97,500,000
380,250	190,125	97,500,001	100,000,000

- i تمام لیٹ آف کریڈٹ امائٹ 100 ملین سے بڑھ رہے ہوں انہیں اضافی -/4,000 روپے (پہلی سہ ماہی) فی 01 ملین (یا اس کا) اور -/2,000 روپے (بعد کی سہ ماہی کے لیے) درکار ہوں گے۔
- ii ہر ترمیم پر -/1,000 روپے (مقررہ) اور درج بالا سروس چارجز لاگو ہوں گے، اگر ترمیم رقم میں اضافے L/C و بیلڈ بنی کی مدت میں توسیع سے متعلق ہو۔
- iii مجاز اٹھارہ فی کی منظوری کے ساتھ کسٹمر زکوہ درج بالا سروس چارجز میں رعایت دی جاسکتی ہے۔

ضمیمہ - II

برآمدات کے لیے کیے گئے معاہدوں کے چارجز

سلیب	معاہدوں کی قیمت کی ریش			چارجز
	سے	تک	کم سے کم	
1	1	5,000,000	0.25%	-/2,000 روپے
2	5,000,001	50,000,000	0.15%	
3	50,000,001	کوئی بھی زائد رقم	0.10%	

ضمیمہ - III

لیٹ آف گارنٹیز

گارنٹی امائٹ ریش	فی سہ ماہی چارجز یا حصہ	
	سے	تک
1	500,000	1,500
	500,001	3,500
	1,000,001	5,000
	1,500,001	6,800
	2,000,001	9,000
	2,500,001	11,000
	3,000,001	13,000
	3,500,001	15,000
	4,000,001	17,000
	4,500,001	19,000
	5,000,001	21,000
	5,500,001	23,000
	6,000,001	25,000
	6,500,001	27,000
	7,000,001	29,000

- د ترمیمات
- ہ فارن بینک کی کاؤنٹر گارنٹی کے جواب میں جاری کردہ ضمانتیں
- و فارن بینک کی کاؤنٹر گارنٹی کے جواب میں جاری کردہ ضمانتوں میں ترمیم

اہم:

تمام ضمانتیں جن کی مالیت 100 ملین روپے سے زائد ہو پر، -/8000 روپے فی ہر 1 ملین روپے (فی سہ ماہی یا اس کا) -/4,000 روپے (بعد کی سہ ماہیوں پر اضافی سروس چارجز عائد ہوں گے۔

بینک کی جانب سے جاری کردہ تمام ضمانتوں میں خاص رقم، تا تاریخ اختتام اور ایک تاریخ شامل ہوں گی جس سے دعوے دائر کیے جاسکتے ہیں۔ گے سوائے جاری کردہ ان اوپن اینڈ ڈگازٹیز کے جو SBP انسٹرکشنز کے موافق ہوں۔ سروس چارجز تاریخ اجرا سے گارنٹی کے اختتام یا اس وقت تک جب بینک نے گارنٹیز کے تحت قانونی ذمے داری کی اطلاع دی ہو، جو بھی اس کے بعد آئے۔

لیٹ آف کریڈٹ اجرا چارجز - ضمیمہ - I

لیٹ آف کریڈٹ امائٹ ریش		لیٹ آف کریڈٹ چارجز	
بعد کی سہ ماہی (روپے)	تک سہ ماہی (روپے)	تک	سے
800,000	up to	1,000	2,000
1,000,000	800,001	1,600	3,200
1,500,000	1,000,001	2,000	4,000
2,000,000	1,500,001	3,000	6,000
2,500,000	2,000,001	4,000	8,000
3,000,000	2,500,001	5,000	10,000
3,500,000	3,000,001	6,000	12,000
4,000,000	3,500,001	7,000	14,000
4,500,000	4,000,001	8,000	16,000
5,000,000	4,500,001	9,000	18,000
5,500,000	5,000,001	10,000	20,000
6,000,000	5,500,001	11,000	22,000
6,500,000	6,000,001	12,000	24,000
7,000,000	6,500,001	13,000	26,000
7,500,000	7,000,001	14,000	28,000
8,000,000	7,500,001	15,000	30,000
8,500,000	8,000,001	16,000	32,000
9,000,000	8,500,001	17,000	34,000
9,500,000	9,000,001	18,000	36,000
10,000,000	9,500,001	19,000	38,000
10,000,001	10,000,001	20,000	40,000
15,000,000	12,500,001	25,000	50,000
17,500,000	15,000,001	30,000	60,000
20,000,000	17,500,001	35,000	70,000
22,500,000	20,000,001	39,375	78,750
25,000,000	22,500,001	44,297	88,594
27,500,000	25,000,001	49,219	98,437
30,000,000	27,500,001	54,141	108,281
32,500,000	30,000,001	59,062	118,125
35,000,000	32,500,001	63,984	127,969
37,500,000	35,000,001	68,906	137,812
40,000,000	37,500,001	73,828	147,656
42,500,000	40,000,001	78,750	157,500
45,000,000	42,500,001	83,672	167,344
47,500,000	45,000,001	88,594	177,187
50,000,000	47,500,001	93,516	187,031
52,500,000	50,000,001	97,500	195,000
55,000,000	52,500,001	102,375	204,750
57,500,000	55,000,001	107,250	214,500
60,000,000	57,500,001	112,125	224,250

نوٹ:

- لیٹر آف گارنٹی کے چار ہز صارفین اور بینکس کے درمیان معاہدے کے مطابق شریعہ ایڈوائزر کی منظوری سے مختلف ہو سکتے ہیں
- متعلقہ منظوری دینے والی مجاز اتھارٹی صارف کو اپنی صوابدید پر کم ریش فراہم کر سکتی ہے
- کلیم بینڈ رنگ چار ہز :- 2,500/- روپے (فلیٹ)

31,000	8,000,000	7,500,001
33,000	8,500,000	8,000,001
35,000	9,000,000	8,500,001
37,000	9,500,000	9,000,001
39,000	10,000,000	9,500,001
46,000	12,500,000	10,000,001
52,000	15,000,000	12,500,001
55,000	17,500,000	15,000,001
65,000	20,000,000	17,500,001

گارنٹی اداؤں کی شرح	فی سرمایہ چار ہز یا حصہ	
	تک	سے
75,000	22,500,000	20,000,001
85,000	25,000,000	22,500,001
95,000	27,500,000	25,000,001
105,000	30,000,000	27,500,001
115,000	32,500,000	30,500,001
125,000	35,000,000	32,500,001
135,000	37,500,000	35,000,001
145,000	40,000,000	37,500,001
155,000	42,500,000	40,000,001
165,000	45,000,000	42,500,001
175,000	47,500,000	45,000,001
185,000	50,000,000	47,500,001
195,000	52,500,000	50,000,001
205,000	55,000,000	52,500,001
215,000	57,500,000	55,000,001
225,000	60,000,000	57,500,001
235,000	62,500,000	60,000,001
245,000	65,000,000	62,500,001
255,000	67,500,000	65,000,001
265,000	70,000,000	67,500,001
275,000	70,500,000	70,000,001
285,000	75,000,000	72,500,001
295,000	77,500,000	75,500,001
305,000	80,000,000	77,500,001
315,000	82,500,000	80,000,001
325,000	85,000,000	82,500,001
335,000	87,500,000	85,000,001
345,000	90,000,000	87,500,001
355,000	92,500,000	90,500,001
365,000	95,000,000	92,500,001
375,000	97,500,000	95,000,001
395,000	1,00,000,000	97,500,001